



تم میں یہ حکم دیا گیا؟ یا تم میں اس لیے بھیجا گیا؟ کتاب اللہ کے کچھ کو کچھ کر کے بیان کرو؟ تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے گمراہ ہوئی تھیں تم اس لیے نہیں ہو کہ یہاں کیا کیا وہاں کیا کیا (اس میں پڑھو)، تم میں جو حکم دیا گیا اسے دیکھو اور اس پر عمل کرو اور جس سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت نبی کریم ﷺ کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی کچھ لوگ یہ کہتے رہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے نہیں فرمایا؟ اور بعض کہتے کہ ایسے ایسے نہیں فرمایا؟ رسول اللہ ﷺ نے جب یہ باتیں سنیں تو باہر نکلے اور ایسے لگے تھا جیسے آپ ﷺ کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑے ہوئے ہیں فرمایا: تم میں یہ حکم دیا گیا؟ یا تم میں اس لیے بھیجا گیا؟ کتاب اللہ کے کچھ کو کچھ اور کر کے بیان کرو؟ تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے گمراہ ہوئی تھیں تم اس لیے نہیں ہو کہ یہاں کیا کیا وہاں کیا کیا (اس میں پڑھو)، تم میں جو حکم دیا گیا اسے دیکھو اور اس پر عمل کرو اور جس سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ

[حسن] [اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے] - [اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

صحابہ کی ایک جماعت نبی کریم ﷺ کے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور بعض روایات کے مطابق ان کا تقدیر کے کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا بعض نے اپنے قول پر کتاب اللہ کی آیت کو بطور استدلال پیش کیا اور دوسروں نے اپنے استدلال پر کتاب اللہ کی آیت کو پیش کیا رسول اللہ ﷺ نے جب یہ سنا تو غصے کی حالت میں باہر نکلے اور آپ ﷺ کا چہرہ انور غصے سے سرخ تھا مانو آپ ﷺ کے چہرے پر انار کے دانوں کا جوس نچوڑا دیا گیا وہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ یہ اختلاف، جھگڑا اور قرآن میں تنازع اور قرآن کے بعض کو بعض سے متنازع کرنا، کیا تمہاری تخلیق کا مقصد یہی ہے؟ یا اس کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ان کی مراد یہ تھی کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے ان کو بتایا کہ سابقہ امتوں کی گمراہی کا سبب بھی اسی طرح کے معاملات تھے پھر ان کی اس طرف رہنمائی فرمائی جس میں ان کی اصلاح اور فائدہ ہو فرمایا کہ جو اللہ نے تم میں حکم دیا وہ کرو اور جس سے روکا گیا اس سے باز آ جاؤ یہ کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم میں پیدا کیا اور جس میں تمہارے لیے فائدہ اور اصلاح ہے



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

